

(imageless edition)



- Ghanaiian folktale
- Wiéhan de Jager
- Samrina Sana
- Urdu / English
- Level 3

This work is licensed under a Creative Commons



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>

Attribution 3.0 International License.

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Translated by: (ur) Samrina Sana

Illustrated by: Wiéhan de Jager

Written by: Ghanaiian folktale

## جیسے جیلی / Anansi and Wisdom

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

# Storybooks Canada



Anansi and Wisdom

جیسے جیلی

کافی عرصہ پہلے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ پودے کیسے لگانے ہیں اور کپڑے کیسے بننے ہیں اور لوہے کے اوزار کیسے بنانے ہیں۔ اور خدا نیامے جو کہ آسمان پر موجود ہے ساری دُنیا کی عقل رکھتا ہے۔ اُس نے اسے مٹی کے ایک برتن میں سنبھال رکھا تھا۔

...

Long long ago people didn't know anything. They didn't know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.

وہ زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب عقل سب میں بانٹنے کے لیے آزادی تھی۔ اور اس طرح لوگوں نے پودے لگانا، کپڑے بنانا، لوہے کے اوزار بنانا اور باقی تمام چیزیں کرنا سیکھیں۔

...

It smashed into pieces on the ground. The wisdom was free for everyone to share. And that is how people learned to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the other things that people know how to do.

In no time he reached the top of the tree. But then he stopped and thought, "I'm supposed to be the one with all the wisdom, and here my son was cleverer than me!" Anansi was so angry about this that he threw the clay pot down out of the tree.

...

—اَنْتَ اَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ  
عَيْنَاهُ لَكَ اَنْتَ اَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ  
هَذَا مَنْ يَقُولُ اَنْتَ اَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ  
عَيْنَاهُ لَكَ اَنْتَ اَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ

One day, Nyame decided that he would give the pot of wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay pot, he learned something new. It was so exciting!

...

—أَنْتَ أَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ  
عَيْنَاهُ لَكَ أَنْتَ أَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ  
هَذَا مَنْ يَقُولُ أَنْتَ أَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ  
عَيْنَاهُ لَكَ أَنْتَ أَكْرَمُ الْجِنَّاتِ وَالْمَلَائِكَةِ

الچی انانسی نے سوچا کہ میں یہ مٹی کا برتن ایک لمبے درخت کی چوٹی پر محفوظ رکھوں گا۔ تب یہ سب کچھ میرا ہو گا۔ اُس نے ایک لمبی رسی بُنی اور مٹی کے برتن کے ارد گرد اور اپنی کمر پر باندھ دی اور وہ درخت پر چڑھنے لگا لیکن درخت پر چڑھائی کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ مٹی کا برتن بار بار اُس کے گھٹنوں سے ٹکرا رہا تھا۔

...

Greedy Anansi thought, "I'll keep the pot safe at the top of a tall tree. Then I can have it all to myself!" He spun a long thread, wound it round the clay pot, and tied it to his stomach. He began to climb the tree. But it was hard climbing the tree with the pot bumping him in the knees all the time.

سارا وقت انانسی کا چھوٹا بیٹا درخت کے نیچے کھڑے یہ سب دیکھتا اور کہتا۔ کیا یہ سب آسان نہیں ہو گا اگر آپ اس مٹی کے برتن کو اپنی کمر سے باندھ لیں؟ انانسی نے عقل سے بھرے اُس مٹی کے برتن کو اپنی کمر سے باندھنے کی کوشش کی اور یہ سب بہت آسان تھا۔

...

All the time Anansi's young son had been standing at the bottom of the tree watching. He said, "Wouldn't it be easier to climb if you tied the pot to your back instead?" Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back, and it really was a lot easier.